

## S3-GPRS/WiFi-ST

### لوازمات - سولس ڈیٹا لاگنگ سٹک

انورٹر کو مربوط کرنے کے لیے مواصلاتی طریقہ RS485 کا استعمال وائریس وائی فائی نیٹ ورک یا جی پی آر ایس ڈیٹا کنیکشن کے ذریعہ کریں، جسے ریموٹ کنٹرول اور مانیٹرنگ کے ذریعہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نیٹ ورک وجدانی ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور جگہ کی نگرانی کے لیے سہولت پذیر ہے۔

#### خصوصیات:


- فالٹ الارم، ہر وقت نگرانی
- حالت کی نشان دہی، ورکنگ
- لگاؤ اور چلاؤ، آسان اور تیز
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید،
- آسان ڈیٹا لاگنگ
- سٹیٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان



S3-GPRS-ST

S3-WiFi-ST

### انٹلی جینٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-GPRS/WiFi-ST



## S3-GPRS/WiFi-ST

## ڈیٹا شیٹ

S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST	ماڈل
<b>کمپنیکیشن</b>		
سولس انورٹر		معاون آلہ کی قسم
≤10		منسلک انورٹرز کی تعداد <sup>(1)</sup>
5 منٹس		ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
LED × 3		نشان دہی کرنا
4 Pin		مواصلاتی انٹرفیس
850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)	وائرلیس مواصلات
APP/WEB		ترتیب دینے کا طریقہ
<b>برقی</b>		
DC 5V(+/-5%)		آپریننگ وولٹیج
≤5 W		آپریننگ بجلی کی کھپت
<b>مادھلیات</b>		
-30 ~ +65°C		آپریننگ ایمپنٹ درجہ حرارت کا دائرہ
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں		آپریننگ نمی
-40 ~ +70°C		إضافی درجہ حرارت
< 40%		إضافی نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
IP65		تحفظ کی ڈگری
<b>میکانیکی</b>		
133mm*45mm*41mm	128mm*50mm*34mm	طول و عرض (ایل*ڈبلیو*ایچ)
انسٹرت + سکرؤ		تنصیب کا طریقہ
84 g	80 g	وزن
<b>دیگر چیزیں</b>		
CE	CE, FCC	توثیق